

جناب عمر کا حسن سلوک !!

<?xml encoding="UTF-8">

جناب عمر کا حسن سلوک !!

ابن حدید کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب ایک لشکر لے کر جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے دروازے پر پہنچے۔ اس لشکر میں اسعد بن خضیر اور سلمہ بن اسلم وغیرہ جیسے لوگ شامل تھے ان سے عمر نے کہا جو لوگ بے عت کرنے سے انکار کر رہے ہیں انہیں لے آؤ تا کہ وہ بیعت کریں۔

ان لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور جناب زبیر نے بیعت نہ کی اور اپنی تلوار کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے تو جناب عمر نے کہا: تمہارے مقابلے میں کتا نکل آیا ہے اسے پکڑ لو تو سلمہ بن اسلم نے جناب زبیر کے ہاتھ سے تلوار چھین کر دیوار پر دے ماری۔

پھر یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے طرف بڑھے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے آپ (ع) کے ساتھ بنی ہاشم بھی تھے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: میں خدا کا بندہ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں لیکن وہ انہیں حضرت ابوبکر کے پاس لے گئے اس نے مطالبہ کیا کہ میری بے عت کرو۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:

کہ کیامیں تمہاری نسبت خلافت کا زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ میں کبھی بھی تمہاری بیعت نہ کروں گا بلکہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم میری بیعت کرو۔ تم لوگوں نے خلافت کو انصار کے سامنے یہ دلیل پیش کر کے حاصل کیا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں لہذا ہر حال میں ہماری اطاعت کرو اور ہماری خلافت کو تسلیم کرو۔

میں بھی تمہارے سامنے وہی دلیل پیش کرتا ہوں جو تم نے انصار کے سامنے پیش کی (میں کہتا ہوں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ قربت حاصل ہے)۔

لہذا اگر تم اپنی ذات کے متعلق اللہ سے ڈرتے ہو تو انصاف کرو اور ہمیں بھی خلافت کے معاملے میں اس طرح پہچانو جس طرح تمہیں انصار نے پہچانا ہے وگرنہ تم جان بوجھ کر ہم پر ظلم کرنے والوں میں قرار پاؤ گے۔ عمر کہتا ہے!

جب تک یہ بیعت نہ کریں انہیں نا چھوڑنا۔

حضرت علی علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ تم جو خلافت کا دودھ دوہ رہے ہو اسے مضبوطی سے تھام کر رکھنا کیونکہ کل یہ معاملہ تجھے بھی پیش آئے گا (یعنی تم بھی آئندہ اپنی خلافت کے لئے راہیں ہموار کر رہے ہو)

خدا کی قسم میں تمہاری بات نہیں مانوں گا اور میں اس کی ہرگز بیعت نہ کروں گا پھر فرمایا:
اے مہاجرین!

اللہ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کو ان کی اہلبیت سے چھین کر اپنے گھروں میں داخل نہ کرو اور لوگوں میں جو اس مقام کے زیادہ حقدار اور اہل ہیں انہیں دور نہ کرو ۔ اے گروہ مہاجرین خدا کی قسم ہم اہلبیت اس خلافت کے تم سے زیادہ حقدار ہیں کیا کوئی ہم جیسا قاری قرآن دین خدا کا فقیہ، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا جاننے والا اور رعیت کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والا ہے ۔ خدا کی قسم ہمارے معاملات میں اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور حق سے دوری اختیار نہ کرو ۔